



ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020: اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

• 74 رنز کی اننگز کھیلنے پر لیوک رونکی مین آف دی میچ قرار

لاہور، 22 فروری 2020ء :

ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے پانچویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائیٹڈ کو جیت کے لیے 165 رنز کا ہدف دیا جو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 17 ویں اور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ 45 گیندوں پر 74 رنز کی اننگز کھیلنے پر لیوک رونکی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو سودمند ثابت ہوا۔

وکٹ کیپر بیٹسمین نیشان اشرف اور اوپنر جیمز ونس کے علاوہ ملتان سلطانز کا کوئی بلے باز بھی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز نیشان اشرف 29 گیندوں پر 50 رنز کی جارحانہ اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ وکٹ کیپر بلے باز کی اننگز میں 4 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ جیمز ونس نے 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 42 رنز کی اننگز کھیلی۔ ملتان سلطانز نے مقررہ بیس اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے عماد بٹ نے 4 اور فہیم اشرف نے 2 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

جواب میں لیوک رونکی اور کولن منرو پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 59 گیندوں پر 92 رنز کا مضبوط آغاز فراہم کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔ کولن منرو 32 گیندوں پر 50 رنز بنا کر پولین واپس لوٹے تو لیوک رونکی نے ڈیوڈ ملان کے ہمراہ رنز

بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان دوسری وکٹ کے لیے 71 رنز کی دھواں دھار شراکت قائم کی۔ لیوک رونکی نے 45 گیندوں پر 74 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 9 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ ڈیوڈ ملان 5 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 35 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے مطلوبہ ہدف 17 ویں اوور کی چوتھی گیند پر حاصل کر لیا۔ ملتان سلطانز کے محمد الیاس اور شاہد آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

میچ میں شاندار بلے بازی کرنے پر لیوک رونکی کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

اتوار کو لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں کراچی کنگز اور دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی جبکہ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل آئیں گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com
@thePSLT20
@thePSL
PakistanSuperLeague
@thePSL

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4